

برائے فوری اجراء

سائیٹ سلیکشن میگزین نے سٹی آف برامپٹن کو کینیڈا میں سرمایہ کاری کرنے کے بہترین مقامات میں سے ایک کے طور پر تسلیم کر لیا

برامپٹن، آن (3 ستمبر 2021) – گزشتہ روز، سائیٹ سلیکشن میگزین، ایک عالمی طور پر شائع ہونے والا کاروباری جریدہ، جو کاروباری رینل اسٹیٹ اور معاشی ترقی پر نظر رکھتا ہے، نے کینیڈا میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہوں کی اپنی فہرست جاری کر دی، جس میں سٹی آف برامپٹن نے اعلیٰ ترین 20 مقامات میں جگہ پائی۔

اس درجہ بندی کے ساتھ، سٹی کے [اکنامک ڈیولپمنٹ آفس](#) کو سائیٹ سلیکشن میگزین کی جانب سے سرمایہ کرنے کے لیے کینیڈا کے بہترین مقامات کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سٹی اپنے کلیدی شعبہ جات پر اپنی معاشی ترقی کی کوششیں مرکوز کرنا جاری ہے: جدت اور ٹیکنالوجی، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ، فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور صحت اور لائف سائنسز۔ 2020 میں، شہر کی FDI حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر کاروباروں کی بحالی اور توسیع پر اضافی زور دیا گیا تھا۔ 700,000 افراد پر مشتمل آبادی کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والا دوسرا شہر ہے۔ 36 سال کی اوسط عمر کے ساتھ، برامپٹن کی 320,000 ہزار افراد پر مشتمل نوجوان، تعلیم یافتہ اور متنوع افرادی قوت 115 زبانیں بولنے والی 234 سے زائد ثقافتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔

سرمایہ کاری، سٹی کی [معاشی بحالی کی حکمت عملی](#) کا ایک بنیادی ستون ہے، جسے برامپٹن سٹی کونسل نے مئی 2020 میں منظور کیا تھا۔ سٹی کے انویشن ڈسٹرکٹ کا بتدریج فروغ اس حکمت کا ایک دوسرا کلیدی حصہ ہے۔ معاشی بحالی کی حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی معیشت میں کشش پیدا کرنا اور اسے مسابقتی فائدہ پہنچانا ہے اور یہ چیز شہر کو کووڈ-19 کی وبائی بیماری کے اثرات سے چھٹکارا پانے میں مدد فراہم کرے گی۔

برامپٹن شہر میں بڑی سرمایہ کاری لانا جاری ہے، جن میں درج ذیل قابل ذکر پراجیکٹس کا حالیہ طور پر اعلان کیا گیا ہے:

- **الیکٹرا: جون میں، الیکٹرا کا اعلان** اس کے ایک بالکل نئے اور قابل استحکام آپریشنز سنٹر کی برامپٹن میں 200 کینیڈی روڈ ساؤتھ کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔

نئے مقام کے ایک کلومیٹر کے اندر، پرچون کے شعبے میں 78 اور رہائش اور خوراک کی خدمات کے شعبے میں 55 کاروبار موجود ہیں۔ 400 ملازمین کو اس علاقے میں لا کر – جو موجودہ جگہ پر نوکریوں کی موجودہ تعداد سے ڈھائی گنا زیادہ ہے – الیکٹرا آپریشنز سنٹر کے قریبی فاصلے میں پرچون اور خوراک کے کاروباروں کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی، جو سٹی کی مقامی معاشی بحالی اور مستقبل کی بڑھوتری میں معاونت فراہم کرے گا۔

- **کوک کینیڈا ہاتلنگ:** دسمبر 2020 میں، کوک کینیڈا ہاتلنگ نے کوک کینیڈا ہاتلنگ برامپٹن فیسلیٹی میں \$12.8 ملین کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ اس سرمایہ کاری کو لائین مینوفیکچرنگ کی موجودہ صلاحیتوں کو بدلنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تاکہ صارفین کے لیے مصنوعہ کی جدت کی زیادہ ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔

- **مپیل لاج فارمز:** اس سال کی ابتداء میں، مپیل لاج فارمز نے اعلان کیا کہ وہ اپنے برامپٹن کے پلان میں 250,000 مربع فٹ کی توسیع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو مزید 300 نوکریاں پیدا کرے گا۔ وہ چکن شاپ کی پرچون کی دکان کے لیے ایک نئی جگہ کے ارادے بھی رکھتے ہیں، جس سے 100 مزید نوکریاں پیدا ہوں گی۔

مکمل نتائج اور درجہ بندیوں کے حوالے سے مزید معلومات [یہاں](#) پر دستیاب ہے۔

اقتباسات

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور کینیڈا انویشن کوریڈور میں اپنے شاندار مقام اور اپنے مسابقتی قابل افراد کے ساتھ، ہم عالمی کاروباروں کے لیے سرمایہ کاری کی بہترین جگہ فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں سائیٹ سلیکشن میگزین کی جانب سے کینیڈا کے بہترین مقامات میں شامل کیے جانے پر خوشی ہے اور تمام ممکنہ سائیٹ سلیکٹرز کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید جانیں کہ ہمیں کیا چیز عالمی درجہ کا مستقبل کا شہر بناتی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"عالمی وباء کے اثرات سے آگے بڑھتے ہوئے، بحالی کے عمل کے دوران سرمایہ کاری برامپٹن کی معیشت میں مسابقتی فائدہ اور لچک لانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ برامپٹن سنجیدہ ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ سائینٹ سلیکشن میگزین نے ہمارے شہر کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے کینیڈا کے بہترین مقامات میں سے ایک کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔"

مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سرمایہ کاری شہر کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کا ایک کلیدی ستون ہے اور برامپٹن ایک جدت پسند شہر بننے اور کینیڈا اور پوری دنیا کے کاروباری اداروں کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا ایک پرکشش مقام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم سائینٹ سلیکشن کی جانب سے اپنے اس عالمی درجے کے شہر کو کینیڈا کے بہترین مقامات میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے بامہارت اور قابل لوگوں، انوویشن کوریڈور پر جگہ اور ایک وقف شدہ اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ، برامپٹن اپنی کمیونٹی میں سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ہم کونسل کی مدت کی ترجیحات کو حقیقت بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں: برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور ہم اپنے آپ کو کاروباروں کی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین مقام کے طور پر قائم کرنا جاری ہیں۔ کینیڈا کے بہترین مقامات کے طور پر تسلیم کیے جانے پر برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس میں ہماری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جبکہ ہم کووڈ-19 کی عالمی وباء سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنے شہر کی بحالی پر مرکوز ہیں اور مسلسل سرمایہ کاری حاصل کر کے اپنی معیشت میں لچک لانے کی کوشش جاری رکھیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مزید جانیں اور www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca